

## 45527 - ان کے ملك ميں خاوند كو مہر ديا جاتا ہے !

### سوال

ميں مہر كے متعلق دريافت كرنا چاہتے ہوں كيونكہ ہمارے بعض علاقوں ميں ايسا ہوتا ہے بعض ہندوستانی رياستوں ( مثلاً كيرلا، تامل ناڈو وغيرہ ) ميں ہم اپنی بہن كے دولہا كو ايك لاکھ روپيہ اور ( 75 ) بافن سونا ديتے ہيں ( ايك بافن چار گرام سونے كے برابر ہوتا ہے ) ہندوستانی رياستوں ميں يہ چيز مسلمانوں كے ہاں وسيع شكل ميں پائی جاتی ہے۔

ميں يہ دريافت كرنا چاہتے ہوں كہ آیا يہ اسلام ميں جائز ہے كہ اتنی مقدار ميں مال اور سونا ديا جائے يا اس كا مطالبہ كيا جائے، ميں اس موضوع كے متعلق آپ كو مزيد معلومات دينا چاہتے ہوں وہ يہ كہ ايك لاکھ روپيہ اور ( 75 ) بافن سونا كيرلا ميں سب سے كم مہر ہے، ليكن مالدار خاندانوں ميں تو يہ مہر پانچ لاکھ روپيہ اور ( 500 ) بافن سونا، اور ايك دوسرے ملك كى بنى ہوئی گاڑى كے ساتھ ساتھ ايك پلاٹ وغيرہ بھى ہوتا ہے۔  
كيا يہ جائز ہے، اور كيا آپ اس مشكل كا ہميں كوئی حل بتا سكتے ہيں ؟

### پسنديده جواب

الحمد لله.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی كتاب عزيز قرآن مجيد ميں مردوں يعنى خاوند كو حكم ديا ہے كہ وہ عورتوں كو ان كا مہر ادا كريں چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور عورتوں كو ان كے مہر راضى و خوشى دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی مرضى و خوشى سے كچھ مہر چھوڑ ديں تو اسے شوق سے خوش ہو كر كھاؤ النساء ( 4 ) .

طبرى رحمہ اللہ كہتے ہيں:

" اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس كو ذكر كرنے سے يہ مراد ليا ہے كہ تم عورتوں كو ان كے مہر ادا كرو جو كہ واجب كردہ عطيه ہے اور فرض و لازم ہے "

اور ان كا يہ بھى كہنا ہے:

" قتادہ رحمہ اللہ كہتے ہيں:

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی دے دو .  
یہ فرض ہے .

اور ابن جریج سے مروی ہے :

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی دے دو .  
مقرر کردہ فرض ہے .

اور ابن زید کہتے ہیں :

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی دے دو .

عرب کی کلام میں النحلة واجب کے معنی میں آتا ہے " انتہی  
دیکھیں: تفسیر الطبری ( 4 / 241 ) .

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مرد پر واجب کیا ہے کہ وہ عورت کو مہر دے، نہ کے اس کے برعکس، قرآن اور سنت نبویہ کی نصوص تو اسی پر دلالت کرتی ہیں، ان میں بخاری شریف کی درج ذیل حدیث بھی شامل ہے :

سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرنے آئی ہوں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس میں نظر دوڑائی اور اوپر سے لیکر نیچے تک دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، جب عورت نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی اور صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس عورت میں کوئی حاجت نہیں تو آپ میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا:

کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا:

جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا تمہیں کچھ ملتا ہے؟ تو وہ شخص گیا اور واپس آ کر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا پھر وہ واپس بیٹھ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جاؤ جا کر دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو، تو وہ شخص گیا اور واپس آ کر کہنے لگا:

اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ میری چادر ہے میں اسے آدھی چادر دیتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تیری اس چادر کا کیا کریگی، اگر اسے تو زیب تن کریگا تو اس پر کچھ نہیں ہو گا، چنانچہ وہ شخص بیٹھ گیا، اور جب مجلس لمبی ہو گئی اور وہ بہت طویل عرصہ تک بیٹھا رہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو آپ نے اسے واپس بلانے کا حکم دیا جب وہ شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: تو نے قرآن مجید میں سے کتنا حفظ کر رکھا ہے تو اس نے عرض کیا:

مجھے فلاں فلاں سورۃ یاد ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ زبانی پڑھ سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ تیرے پاس جو قرآن مجید ہے اس عورت کو یاد کرانے کے بدلے اس عورت کا مالک بنا دیا "

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 4741 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1425 ) .

ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اس حدیث میں ہے کہ: نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" کیا تمہارے پاس اسے مہر دینے کے لیے کچھ ہے "

اور علماء کا اجماع ہے کہ بغیر مہر ذکر کیے کسی کے لیے کسی عورت سے وطئ کرنا جائز نہیں "

اور اس میں یہ بھی ہے کہ: بہتر یہی ہے کہ مہر ذکر کیا جائے، اور اگر وہ بغیر مہر کے نکاح کرتا ہے تو عقد نکاح صحیح ہو گا لیکن دخول ہونے پر اس عورت کے لیے مہر مثل واجب ہو گا ( یعنی اس جیسی عورتوں جتنا مہر دینا ہو گا ) " انتہی

دیکھیں: فتح الباری ( 211 / 9 ) .

چنانچہ قرآن مجید اور سنت نبویہ اور اہل علم کا اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو مہر ادا کرے نہ کہ بیوی خاوند مہر دے، اور فطرت سلیمہ اور بشری طبیعت کے ساتھ بھی یہی موافق ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مہر ادا کرے.

وگرنہ پھر خاوند عورت پر نگران اور حاکم کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ عورت نے اس خاوند کو مہر ادا کیا ہے!؟

اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خاوند کا اپنے مال میں سے بیوی پر خرچ کرنا اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کو عورت پر مرد کی نگرانی اور حکمرانی کا سبب بیان کیا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور مرد عورتوں پر حکمران و نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے ( ان عورتوں پر ) خرچ کیا ہے النساء ( 34 ) .

اور خاوند کی جانب سے یہ اخراجات اور خرچ برداشت کرنے کے بعد بیوی یہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہے کہ خاوند نے بہت زیادہ خرچ کو برداشت کیا ہے تو اس طرح وہ اپنا سارا یا اس میں کچھ حصہ اپنی مرضی سے راضی و خوشی خود ہی چھوڑ دیتی ہے، اس لیے خاوند کے لیے یہ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی و خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ النساء ( 4 ) .

چنانچہ آپ کے ہاں وہ مال جو عورت شادی کرنے کے لیے بطور مہر اپنے خاوند کو دیتی ہے یہ دین کے بھی مخالف ہے اور فطرت سلیمہ کے بھی، اور عقل اور بشری طبیعت کے بھی منافی و مخالف ہے، یہ تو اس صورت میں ہے جب یہ قلیل سی مقدار میں ہو، لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں ہو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو پھر کیا حالت ہو گی!؟

رہا اس کا حل تو آپ کے علاقے میں علماء کرام اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس رکاوٹ اور خرابی کی وضاحت کریں اور پھر اس کا علاج بھی سامنے رکھیں، اور اس کو کسی ایسی چیز سے تبدیل کریں جو شریعت مطہرہ کے موافق ہے، اور فطرت سلیمہ کے بھی موافق ہے جس پر لوگ پیدا ہوئے ہیں۔

واللہ اعلم .